

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹرافس  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
نئی دہلی  
1 دسمبر 2020  
پریس ریلیز

### جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بین الاقوامی آن لائن لیکچر سیریز کا اہتمام

جامعہ ملیہ اسلامیہ صد سالہ تقریبات کی مناسبت سے شعبہ سماجیات کے زیر اہتمام ، زندگی کے متنوع پہلوؤں پر ایک بین الاقوامی (آن لائن) لیکچر سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ لیکچر سیریز مارچ 2021 تک جاری رہے گا۔

پروفیسر بولا بھدرا (ماہر سماجیات) اور پروفیسر بندنا پورکایستھا (ماہر سماجیات) نے 28 نومبر 2020 کو “ انٹرسکیشنل فیمنزم: کنٹری بیوشن اینڈ چیلنجز ” پر ایک لیکچر دیا۔ جس میں جنس اور اس سے متعلقہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ۔

اکتوبر اور نومبر 2020 کے مہینوں میں یہ لیکچر جمعہ اور ہفتہ کو منعقد ہوئے تھے۔ اب تک ، دو مہینوں میں تقریباً دس موضوعات پر متعدد ماہرین کے ذریعہ لیکچرز دئے جا چکے ہیں۔

لیکچر سیریز میں متنوع نظریہ علمی / جمالیاتی / فنکارانہ / ادبی / سائنسی / ذاتی تشریحات وغیرہ پر گفتگو کی گئی ۔

مقررین نے اپنے اپنے شعبوں جس میں ماہرین نے تعلیم ، آرٹ ، فوٹوگرافر ، فن تعمیرات ، شاعری وغیرہ پر اپنی بات رکھی ۔

آن لائن لیکچر سیریز کا افتتاح 2 اکتوبر ، گاندھی جی کی یوم پیدائش کی مناسبت سے منعقد ہوا ۔ پروفیسر موبنی انجم (ماہر سماجیات) اور پروفیسر عنایت علی زیدی (تاریخ دان) اس کے مرکزی مقرر تھے۔

اس موقع پر ڈاکٹر اندو پرکاش سنگھ، ڈاکٹر گوری بھارت، رگھو رائے، راجیش بادل ، ڈاکٹر کمکم سریواستو ، پروفیسر راجیش میسرا ، رینوکا سونڈھی گلاٹی، پروفیسر محمد طالب ، پروفیسر بولا بھدرا ، اور پروفیسر بندنا پورکایستھا جیسی شخصیتوں نے بھی اپنا وقیع خطبہ پیش کیا ۔

پروفیسر منیشا ٹی پانڈے ، سر براہ ، شعبہ سماجیات نے کہا کہ متعدد موضوعات پر لیکچر سیریز کا اہتمام زندگی کے متعدد پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی ایک کوشش ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیکچر سیریز کی سب سے اچھی بات یہ رہی کہ اس میں تمام فیکلٹی ممبروں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شعبہ کے ریسرچ اسکالرز بھی شامل رہے ۔

ڈاکٹر شرینا بانو ، اسسٹنٹ پروفیسر ، اس پورے لیکچر سیریز کی کوآرڈینیٹر تھیں ۔

احمد عظیم  
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر